

FA Part 1 Home Economics Full Book Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	. کام جب ہماری دلچسپی اور صلاحیت کا نہ ہوتے	A. اکتاہٹ B. نفسیاتی تھکان C. ناکامی کا خوف D. تھکاوٹ زیادہ ہوجاتی ہے
2	کام کے دوران تھوڑا سا سستالینے سےکو کم کیا جاسکتا ہے	A. نیند B. محنت C. تھکاوٹ D. سستی
3	افراد ختم غلط رویہ سے کیا پیدا کرتے ہیں	A. بچلی کا خوف B. پانی کا خوف C. اندھیرے کا خوف D. بچوں میں اندھیرے کا خوف
4	میزانیہ کی کتنی اقسام ہیں	A. ایک مقبول اقسام B. دو مقبول اقسام C. تین مقبول اقسام D. چار مقبول اقسام
5	ملاحول اور تربیت بچے پر کیا اثرات چھوڑتے ہیں	A. اصول و قواعد پر B. مثبت راہنمائی C. بچے کے رویہ اور عادات پر D. نظم و ضبط پر
6	انسانی اور ماد وسائل و زرائع میں مشترک ہیں	A. ایک قدر B. دو قدریں C. تین قدریں D. کوئی نہیں
7	تجربیدی ٹیزائن تخلیق کیے جاتے ہیں	A. زاویہ طور پر B. اجتماعی C. انفرادی طور پر D. اقلیدی اشکال
8	مشقت آمیز کام کرنے کے بعد تھکاوٹ سے کیسے بچا جاسکتا ہے	A. تیز کام کرنے سے B. آرام کرنے سے C. بلکے پہلکے کام کرنے سے D. کوئی نہیں
9	ہوم اکنامکس میں زرائع و وسائل سے مرا دہے	A. اشیا اور وقت کی توانائی B. روپیہ پیسا C. کھیلوں کے لیے توانائی D. کوئی نہیں
10	بچوں کی مثبت راہنمائی کے لیے مددگار ثابت ہوسکتا ہے	A. زریں اصول B. اخلاقی رویہ C. جزا و سزا سے پرہیز کرنا D. اصول کی پابندی
11	جیومیٹریکل ٹیزائن کس ٹیزائن کا حصہ ہوتے ہیں	A. تجربیدی ٹیزائن B. متصرفہ ٹیزائن C. زاویہ دار ٹیزائن D. کوئی نہیں
12	چھ سال کا بچہ جن سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے اس میں استعمال کی ضرورت پڑتی ہے	A. ہاتھوں B. کان C. آنکھ D. بازوؤں
13	جاننے کے زخم کی اقسام ہیں	A. دو B. چھ C. چار D. تین
14	قدرتی ٹیزائن وہ ٹیزائن ہے جن میں پہاڑ، سمندر، بادل اور جانور اور پھول شامل ہیں	A. سمندر B. پہاڑ C. دریا D. سبزیاں
15	ٹیزائن کسی بھی چیز کا ہوسکتا ہے	A. مکان کا B. کپڑے کا C. میز کا D. کرسی کا

16	فوری مقاصد میں شامل ہے	<p>A. چیزیں اکٹھا کرنا</p> <p>B. ضروریات زندگی کی اشیاء</p> <p>C. نیا لباس خریدنا</p> <p>D. مطالعہ کے لیے کتاب</p>
17	گھر سے مراد وہ جگہ ہے	<p>A. کھیلنے کی جگہ</p> <p>B. جہاں الگ رہتے ہیں</p> <p>C. خاندان کے کچھ لوگ مل کر رہتے ہیں</p> <p>D. کوئی نہیں</p>
18	مریض کے لیے کون سی سہولتیں صحت یابی میں اہم ثابت ہوتی ہیں	<p>A. گھر کی</p> <p>B. صفائی کی</p> <p>C. سکول کی صفائی</p> <p>D. دیواروں کی</p>
19	جسمانی کام کے دوران تھکاوٹ کے اثرات کو کم کرنے کا طریقہ	<p>A. توانائی حصول</p> <p>B. ہلکی موسیقی</p> <p>C. وقت کی بچت</p> <p>D. کوئی نہیں</p>
20	ہفتہ وار کاموں کی فہرست میں شامل ہے	<p>A. کمروں کی صفائی</p> <p>B. برتنوں کی صفائی</p> <p>C. کپڑوں کی صفائی</p> <p>D. کوئی نہیں</p>